



## سوال

(602) سجدہ میں پڑھی جانے والی دعائیں کتنی مرتبہ پڑھی جائیں؟

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

سجدے کی مختلف دعائیں جو حدیث میں آئی ہیں، کیا 'سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى' کی طرح تین مرتبہ پڑھی جائیں گی؟ جیسے 'سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَنَحْمَدُكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي دُعَايِي؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد!

رکوع اور سجدہ میں تسبیحات کی زیادہ سے زیادہ کوئی گنتی مقرر نہیں۔ حتی المقدور جتنی دفعہ کوئی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ بعض احادیث میں دس دفعہ کا بھی ذکر ہے۔ یہ روایت سنن نسائی اور سنن ابی داؤد وغیرہ میں حسن درجہ کی ہے۔ جس حدیث میں 'سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى' اور 'سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ' تین مرتبہ بیان ہوا ہے۔ یہ ادنیٰ (کم از کم) درجہ ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لَا دَلِيلَ عَلَى تَقْيِيدِ التَّمَالِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ، بَلْ يَتَّبَعُ الْإِسْتِخَارَ مِنْ التَّسْبِيحِ عَلَى مِقْدَارِ تَطْوِيلِ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بَعْدَ مُرَاعَاةِ الْمَفَاتِحِ: ۶۳۱/۱

”زیادہ سے زیادہ تسبیحات کی تعداد مقرر کرنے کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ نماز کی طوالت کے اعتبار سے بلاقیدان کو زیادہ کیا جاسکتا ہے۔“

هَذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

## فتاویٰ حاقظ ثناء اللہ مدنی

کتاب الصلوة: صفحہ: 527

محدث فتویٰ